

عزيزي ابل خانه،

آج سے، موجودہ گریڈ 8 اور گریڈ 9 کے پہلی مرتبہ کے طلبا کے تمام اہل خانہ کا اپنے مائی اسکولز اکاونٹس میں لاگ اِن ہونے کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان (SHSAT) میں اندار جکرا سکتے ہیں۔ تمام طلبا جو ہائی اسکول میں داخلے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

یہ اس طرح شروع کیا جا سکتا ہے:

مائی اسکولز میں لاگ اِن ہوں

- اپنا استقبالیہ خط موصول کریں۔ محکمئہ تعلیم کے پبلک اسکول اور چارٹر اسکول کے موجودہ گریڈ 8 کے طلبا کے اہل خانہ کو ای میل کے ذریعے استقبالیہ خطوط ارسال کیے جا چکے ہیں۔ گریڈ 8 کے تمام طلبا (اور گریڈ 9 کے پہلی مرتبہ کے طلبا، اگر دلچسپی رکھتے ہیں) بھی اپنے استقبالیہ خطوط اپنے موجودہ اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خط میں ہائی اسکول کے داخلوں کا ایک عمومی جائزہ اور یہ کہ کس طرح محکمئہ تعلیم کی آن لائن ڈائریکٹڑی اور عمادر امد کرنے کے نظام MySchools.nyc کو استعمال کیا جا سکتا ہے، شامل ہیں۔
 - اگر مائی اسکولز آپ کے لیے نیا ہے، آپکے بچے کا استقبالیہ خط آپکو اپنے مائی اسکولز اکاونٹ کو تریتب دینے میں مدد کریگا، اپنے بچے کو اسکے منفرد اکاونٹ کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس میں شامل کریں۔
 - پچھلے سال کا مائی اسکولز اکاونٹ پہلے سے ہی موجود ہے؟ ابھی لاگ اِن ہوں! اگر ضرورت ہو تو آپ اپنے مائی اسکولز کا نیا پاس ورڈ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے بچے کا نام اپنے ڈیش بورڈ پر نہ نظر آئے، کوئی بات نہیں صرف اپنے بچے کا استقبالیہ خط حاصل کریں اور وہاں دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

ایک بار لاگ اِن ہونے کے بعد، آپ ذیلی کام کر سکتے ہیں:

- 15 نومبر، تک SHSAT کا اندراج کرا لیں۔ متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان (SHSAT) کے داخلے ابھی کھلے ہیں، یہ آٹھ متخصص ہائی اسکول میں داخلوں کا تعین کرتا ہے۔
- اگر آپ ان اسکولوں میں سے کسی میں / سب میں درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، 15 نومبر کی حتمی تاریخ تک اپنا اندراج بشمول اپنے اسکول کی ترجیحات کے کرا لیں۔ SHSAT میں اندراج پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں ہے؛ تمام طلبا جو اس حتمی تاریخ تک اندراج کرا لیں گے SHSA دے سکتے ہیں۔
- آپ آن لائن اپنے مائی اسکولز اکاونٹ یا اپنے موجودہ اسکول کے مشیر کے ذریعے اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔
- متحانات کی مشق کریں، یہاں پر schools.nyc.gov/SHS، امتحان کی تاریخ، اور مقام دستیاب ہیں۔ دسمبر کے اوائل تک اندر اج کنندہ طلبا کو ایک انفر ادی امتحان کی ٹکٹ موصول ہوگی جس میں تصدیق کی جائے گی کہ دسمبر میں یہ امتحان کب اور کہاں ہوگا۔
- مانی اسکولز میں اپنے ہائی اسکول کے انتخابات تلاش کریں. جب آپ اپنے اکاونٹ میں لاگ اِن ہو جائیں، آپ اپنے پسندیدہ پروگر اموں کے ناموں کے آگے دیے گئے ستاروں پر کلک کرکے محفوظ کر سکتے ہیں۔

براہ کرم توجہ کریں: ہائی اسکول کی درخواست ابھی کھلی **نہیں** ہے، اور لگوارڈیا ہائی اسکول کے آڈیشن کا اندراج بھی ابھی کھلا نہیں ہے۔ جب مزید معلومات دستیاب ہونگی، ہم تازہ ترین کے بارے آپکو ای میل کریں گے۔

مدد کی ضرورت ہے؟

- اپنے بچے کے موجودہ اسکول مشیر سے بات کریں۔ داخلہ طریقئہ کار کے دوران وہ آپ کے رابطے کا مرکزی ذریعہ بونگے اور آپکو اپنے استقبالیہ خط موصول کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ایک نجی یا مذہبی اسکول یا گھر پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپکو ایک خاندائی استقبالیہ مرکز سے رابطہ کرنا چاہئیے.
 - مزید معلومات حاصل کریں اور ہماری داخلہ وڈیوز بشمول ان وڈیوز ملاحظہ کریں کہ مائی اسکولز تک کیسے رسائی حاصل کریں اور کس طرح استعمال کرنے کے لیے اس پر —schools.nyc.gov/High اور schools.nyc.gov/SHS

ہم آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے ایک ثمر آور داخلہ دور انیے کے لیے دُعاگو ہیں۔

آپ کا شکریہ،

ہائی اسکول داخلہ کی ٹیم، دفتر برائے طالب علم اندراج

نیو یارک شبر محکمئہ تعلیم